



سوال

قیامت کے دن لوگوں کی اقسام

جواب

الحمد للہ

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

یعنی قیامت کے دن لوگ تین اقسام میں بٹ جائیں گے۔

امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے :

اور اسی طرح انہیں سورۃ کے آخر میں موت کے وقت ان ہی تین اقسام میں تقسیم کیا ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جماعتوں کے حالات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے : واصحاب الیمینہ، یہ ان کے مقام کی عظمت اور ان کے حالات کی بڑائی ہے،

اور یہ فرمان : واصحاب المشئمہ واصحاب المشئمہ اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔

یعنی شمال والے یہ ان کی حالت کی ہولناکی ہے۔

اور السابقتون السابقتون اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں، یعنی دنیا میں خیر و بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہی آخرت میں جنت میں داخل ہونے میں سبقت لے جانے والے ہیں اور وہ یہ ہیں جن کے اوصاف یہ ہیں، المقربون، وہ نعمتوں والی جنتوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب اور اعلیٰ علیین میں بلند درجات میں ہیں جن کے اوپر اور کوئی درجہ نہیں پایا جاتا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں بھی سبقت لے جانے والوں میں سے بنائے آمین یا رب العالمین۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔ دیکھیں تفسیر ابن سعدی ص (832)۔